

تھاروں و تصریح کر کتب

جانبِ اختر را ہی ایسا سے



الصحيح المسلم (انگریزی ترجمہ مترجمی حواسی) جلد اول | مؤلف : ابو الحسین عساکر الدین مسلم بن حجاج القشیری فیشاپوری — ترجمہ و تشریح : عبد الحمید صدیقی — شیخ محمد اشرف کشیری بازار لاہور — صفحات : ۳۸۷ — تقطیع کلام — قیمت : ۱۵ روپے — طباعت و کتابت دجلہ لفیض۔

قرآن کریم کی تفہیم کے لئے احادیث بنوی کا مطالعہ ناگزیر ہے۔ قرآن کریم کے کمی تراجم اپنے اور غیر وہ کی کوششوں سے منظر عام پر آچکے ہیں، مگر احادیث کی طرف چند احوال توجہ نہیں دی گئی۔ بعض غیر مسلم مستشرقین نے تراجم کا سلسلہ شروع کیا۔ مثلاً داکٹر جیس رابسون (Dr. JAMES ROBSON) نے مشکوہ المصایع کو انگریزی کے قالب میں دھالا۔ مگر ایسے تراجمین کی عربی زبان دارب سے ناقصیت اور قرآن و سنت کے مطالعہ کی کمی نیز اپنے مخصوص مقاصد کی بنابر ان کے تراجم اعتماد کے لائق نہیں۔

صحیح مسلم کا شمار احادیث کی اونچ چوکا بول میں ہوتا ہے جو مستند ترین سمجھی جاتی ہیں ان میں سے صرف صحیح بخاری کا ترجمہ نو مسلم علامہ محمد اسد نے شروع کیا تھا۔ مگر اسے پائی تکمیل تک نہ پہنچا سکے۔ عمر حاضر کی شدید ضرورت ہے کہ احادیث بنوی کے مستند مجموعے خصوصاً صحاح ستہ کو انگریزی اور دوسری زبانوں میں ڈھالا جائے، تاکہ قرآن کریم کو سمجھنے کے لئے غیر مسلم دنیا اور انگریزی تعلیم یافتہ طبقہ ان سے خاطر خواہ استفادہ کر سکے۔ اللہ تعالیٰ عبد الحمید صدیقی صاحب کو جزاً نے نیز رسمی کہ انہوں نے اس نیک کام کا بیڑا اٹھایا ہے اور ان کی محنت ہمارے سامنے ہے۔ موصوف انگریزی اور اردو کی متعدد کتابوں کے مصنف اور صاحب نظر عالم ہیں۔ عربی اور انگریزی دونوں زبانوں پر یکساں عبور رکھتے ہیں — زیرِ نظر جلد اول۔ کتاب الایمان، کتاب الطہارت، کتاب الحیثن اور کتاب الصلوۃ کی ۱۵۲ صفحات کے ترجمہ اور تشریحی حواسی پر شتمل ہے۔ ترجمہ نے تشریحی حواسی لکھنے میں محدثین کرام کی مستند شروح سے استفادہ کیا ہے۔ اور رجال کے سوانحی حالات کے لئے نہذب النہذب (ابن حجر عسقلانی)